

سُورَةُ الدَّهْرِ مَدْرَسَيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کیا گزارہے انسان پر ایک ایسا وقت،

هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ

زمانے کا کہنا تھا وہ

مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ

کوئی قابل ذکر چیز ①

شَيْئًا مَذْكُورًا ①

بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

ایک غلط نظر سے تاکہ امتحان ہیں اس کا اسی یہے بنایا ہے ہم نے اسے

مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٌ ۚ نَبْتَلِيهُ فَجَعَلْنَاهُ

سنے والا ، دیکھنے والا ⑦

سَمِيعًا بَصِيرًا ⑦

ہم نے وکھا دیا ہے اسے راستہ اب چاہے

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا

(بن جائے) شکر کرنے والا یا فکر کرنے والا ⑦

شَاكِرًا وَلَمَّا كَفُورًا ⑦

یقیناً ہم نے میا کر کھی ہیں کافروں کے یہے زنجیریں،

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِينَ سَلِسْلًا

طوق اور جھکتی ہوئی آگ ⑦

وَأَغْلَلَّا وَسَعِيرًا ⑦

یقیناً یہی لوگ پیس گے شراب کے جام

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَالِسَ

جن میں آئیزش ہوگی کافر کی ⑤

كَانَ مِنَاجُهَا كَافُورًا ⑤

یہ ایک چیز ہے کہ پیس گے اس میں سے اللہ کے بندے

عَيْنًا يَشْرُبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ

اور شانیں بکال ہیں گے اس میں سے جس طرح بکالنا پاہیں گے ⑤

يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ④

دیرودہ لوگ ہوں گے جو پوری کیا کرتے تھے اپنی نذر اور قتے تھے

يُوْفُونَ بِالنَّذْرِ وَبِمَا فَوْنَ

اس دن سے جس کی مصیبت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی ⑤

يَوْمًا كَانَ شَرْءًا مُسْتَطِيرًا ④

وَيُطْعِمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حِبَّهِ
مُسْكِينًا وَيَتِيمًا وَآسِيرًا ⑧

اور کھلایا کرتے تھے کھانا اللہ کی محبت میں
مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو ⑧

(اور کہتے تھے) کہ یہ کھلا بہے یہم تم کو اللہ کی خاطر
نہیں چاہتے ہم تم سے کوئی بدلہ اور نہ شکریہ ⑨

بلاشبہ ہمیں دُر ہے اپنے رب سے اس دن (کے غذاب) کا
جو سخت مصیبت کا اور انتہائی طویل ہو گا ⑩

سوچا لے گا ان کو اللہ اس دن کے شر سے
اور عنایت فرمائے گا انہیں تروتازگی اور سرور ⑪

اور عطا کرے گا انہیں پدرے میں اس صبر کے جوانوں نے کیا
جنت اور رشی بیاس ⑫

حکیر لگائے یہی ہوں گے یہ دہاں اپنی اپنی مندوں پر
اور نہ برداشت کرنی پڑے گی انہیں دہاں سوچ (کی گئی)
اور نہ نھر (جاٹے ک) ⑬

اور جھکی ہوئی ہوں گی ان پر جنت کی چھاؤں
اوہ بیڑ کر دیے گئے ہوں گے (ان کے) اس کے پھل پوپی طرح ⑭

اور گردش کرائے جائیں گے، اہل جنت پر برلن چاندی کے
اور بیا لے جو شیشے کے ہوں گے ⑮

اوہ شیشہ بھی چاندی کی قسم کا ہو گا
جنہیں وہ بھریں گے تھیک اندازے کے مطابق ⑯

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ

لَا تُرِيدُنَا مِنْكُمْ حَرَاءً وَلَا شَكُورًا ⑥

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا

عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ⑦

فَوَقْهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذِلِكَ الْيَوْمُ

وَلَقِهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا ⑪

وَجَزِيلُهُمْ بِمَا صَبَرُوا

جَنَّةً وَحَرِيرًا ⑫

مُشَكِّلُينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ

لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا

وَلَا رَصْمَرِيرًا ⑬

وَدَارِينَةً عَلَيْهِمْ ظِلَّلُهَا

وَذَلِكَ قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا ⑭

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَرْبَيْلَةٍ مِنْ فِضَّلَةٍ

وَأَكْوَابٌ كَانَتْ قَوَارِيرًا ⑮

قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّلَةٍ

قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا ⑯

وَلِسْقُونَ فِيهَا كَاسًا

كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجِيلًا ⑭

عَيْنَاً فِيهَا تُسْتَى سَلْسِيلًا ⑮

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ

وَلْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ

حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا ⑯

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَ رَأَيْتَ

نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ⑰

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ

خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقٌ

وَحُلُولًا أَسَاوَرَ مِنْ فِضَّةٍ

وَسَقِيْهُمْ رَبْعُمْ شَرَابًا طَهُورًا ⑱

إِنَّ هَذَا كَانَ نَكْرُ جَزَاءً وَكَانَ

سَعِيْكُمْ مَشْكُورًا ⑲

إِنَّا نَعْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ

الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ⑳

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ

مِنْهُمْ أَثْمًا أَوْ كَفُورًا ㉑

اور پہنچے جائیں گے انہیں دہل ایسے جام

جن میں آئیزش ہوگی سونھنکی ⑫

یا یک پتھر ہو گا جنت میں جن کا نام ہے سلبیل ⑬

اور دوڑتے پھر رہے ہوں گے ان کی خدمت کے لیے

ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ جب تم انہیں دیکھو

تو خیال کرو گیا کہ موئی بیس بھرے ہوئے ⑭

اور جب تم نگاہ ڈالو گے دہل تو دیکھو گے ہر طرف

لعتیں ہی نعمتیں اور بڑی سلطنت کی شان و شوکت ⑮

ہوں گے ان کے اوپر کے کپڑے پاریک ریشم کے

جو بزرگ کے ہوں گے اور حچکدار

اور پہنچے جائیں گے انہیں لگن چاندی کے

اور پہنچے گا انہیں ان کا رب نہیات پاکیزہ شراب ⑯

(ارشاد ہو گا) بلاشبہ یہ ہے تمہاری ہی جزا اور حقی

تمہاری کارگزاری قابل قدر ⑰

یقیناً ہم نے ہی نازل کیا ہے تم پر

قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے ⑱

لہذا تم مجھے رب ہے اپنے رب کے حکم پر اور نہ مانوبات

ان میں سے کسی بعمل کی یا ناشکرے کی ⑲

وَذُكْرُ اسْمِ رَبِّكَ

بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

وَمِنَ الظَّلَالِ فَاسْجُدْ

لَهُ وَسَبِّحْهُ

لَيْلًا طَوِيلًا ۝

إِنَّ هُوَ لَاءِ يُحِبُّونَ

الْعَاجِلَةَ

وَيَدْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۝

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ

وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ

وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا

أَمْثَالَهُمْ تَبَدِّلُ يَلْلًا ۝

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ

اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ۝

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا حَكِيمًا ۝

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ

وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ

لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

اور ذکر کرتے رہو اپنے رب کے نام کا

صبح و شام ۱۵

اور رات کو بھی سجدہ کرو

اس کے حضور اور تبیع کرتے رہو اس کی

رات میں درستک ۱۶

یقیناً یہ لوگ محبت رکھتے ہیں

جلدی حاصل ہو جانے والی (دنیا) سے

اد نظر انداز کیے دے رہے ہیں اپنے بھیچے ایک بھاری دن کو ۱۷

ہم ہی نے پیدا کیا ہے ان کو

اور مٹبوط کیے ہیں ان کے جوڑ بند

اور جب چاہیں گے ہم بدل دیں گے

ان کی شکلوں کو جس طرح بدنا چاہیں گے ۱۸

یقیناً یہ ایک نیخت ہے، پس جو شخص چاہے

بنائے اپنے رب کی طرف جلنے کا راست ۱۹

او تو چاہیں نہیں سکتے مگر یہ کہ چاہے اللہ

یقیناً اللہ ہے سب کچھ جانے والا، بڑی حکمت والا ۲۰

و اصل فرماتا ہے جسے چاہے اپنی رحمت میں

اور رہے ظالم، تیار کر رکھا ہے اللہ نے

ان کے لیے دردناک عذاب ۲۱